

میرے بچے کو COVID-19 کی ویکسین کیوں لگوانی چاہیے؟

ویکسین بچوں کو COVID-19 سے بیمار پڑنے سے تحفظ فراہم کرتی ہے۔
ویکسین COVID-19 کے پھیلاؤ کو روک کر کمیونٹی کے لوگوں کو تحفظ فراہم کرتی ہے۔

کیا بچوں کو اس وقت واقعی COVID-19 کی ویکسین کی ضرورت ہے؟

جی ہاں۔ COVID-19 کے انفیکشن کا خطرہ ابھی بھی بہت زیادہ ہے بچے جتنا جلد ویکسین لگوائیں گے، اتنا زیادہ محفوظ ہوں گے۔



میرا 5 سے 11 برس کا بچہ COVID کی کون سی ویکسین لگوائے گا؟

کینیڈا میں موجود 5 سے 11 برس کے بچوں کو کم خوراکوں میں Pfizer-BioNtech ویکسین (10 مائیکروگرام، ٹینز اور بالغ افراد کی خوراک کا ایک تہائی) دی جاتی ہے۔ کم خوراکیں بچوں میں زیادہ بہتر انداز میں کام کرتی ہیں، کیوں کہ ان کا مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے اور بالغ افراد کے مقابلے میں زیادہ بہتر انداز میں رد عمل دیتا ہے۔ ان کو دو خوراکوں کی ضرورت ہوگی۔



کیا COVID-19 کی ویکسین بچوں کے لیے محفوظ ہے؟

ہیلتھ کینیڈا، کئی سائنس دانوں اور محققین نے دستیاب طبی شواہد کا جائزہ لیا ہے اور انہیں ویکسین کے تحفظ کے حوالے سے کسی قسم کے بڑے خدشات نظر نہیں آتے۔ COVID-19 کی ویکسین سے بھی اسی طرح کے ہلکے ضمنی اثرات پیدا ہوتے ہیں جس طرح دیگر ویکسینز کے باعث پیدا ہوتے ہیں، مثلاً انجکشن والی جگہ پر درد، تھکاوٹ، جسم میں درد، سر درد، بخار یا سردی لگنا چند دنوں کے بعد یہ ضمنی اثرات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔



انتہائی شاذ معاملات میں COVID-19 کی ویکسین لگوانے کے بعد بعض ٹینز اور نوجوانوں میں دل کے پٹھوں کی سوزش (ورم عضلات قلب) یا دل کی بیرونی سطح پر موجود استرکاری (ورم غلاف قلب) کی شکایات سامنے آئی ہیں؛ ان میں سے اکثر چند دنوں میں ہی ٹھیک ہو گئے تھے۔ 5 سے 11 برس کی عمر کے درمیان COVID-19 کی ویکسین کروانے والے بچوں میں کئے گئے مطالعات سے دل کی سوزش کا کوئی بھی معاملہ سامنے نہیں آیا ہے۔ COVID-19 کے باعث بیمار پڑنے سے دل کی سوزش کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔

COVID-19 ویکسین آپ کے بچوں کو صحت مند رہنے میں مدد کرے گی تاکہ وہ اسکول میں رہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ اپنے بچے کو جلد از جلد ویکسین کروائیں!

دسمبر 3، 2021ء تک درست

{ REFUGEE } 613

BEING GOOD HEALTH
TAIBU
COMMUNITY
HEALTH CENTRE

Funded by:

Financé par :



Immigration, Refugees
and Citizenship Canada

Immigration, Réfugiés
et Citoyenneté Canada

OCASI
Ontario Council of Agencies Serving Immigrants

WCHI
WOMEN'S COLLEGE HOSPITAL
Healthcare | REVOLUTIONIZED